

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

آؤقرآن سمجھیں

آسان طریقے سے

کورس - 3


سورة البقرة: آيات: 70-71

صفحہ - 10، اشارہ - a

مرتب: ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم
بانی و ڈائریکٹر انڈر اسٹینڈ القرآن اکیڈمی




سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1



سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1



ہم دوسرے 5 صفحات کے اشارات کو بائیں
ہاتھ کی انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔



گزشتہ چار صفحے کے اشارات
TPI کے ذریعہ

اعادہ



گزشتہ چار صفحے کے مختصر
اشارات

اعادہ



دسواں صفحہ

تیسرا سوال

کون قاتل؟

سخت دل

کلام تبدیل

2 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۗ
 11 تَدَا
 5 وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا
 6 ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۗ
 2 قَالُوا الْكُنَّ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾
 7 قَا
 8 ف
 2 وَاذْ قَاتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
 4 تَدَا
 6 تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى
 1 ن
 6 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ
 1 أَسْ
 4 ض
 6 بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
 2 لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
 8 تَدَا
 5 الْمَاءُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 7 ض
 3 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
 5 أَسْ
 3 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ
 7 عَدَا
 8 مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
 6 ض
 3 آمِنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا
 8 قَا
 1 فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾
 4 ف

دسویں صفحے کے اشارات
TPI کے ذریعہ



پندرہ سوال

کون قاتل؟

نخت دل

کلام تہیں

دسویں صفحے کے اشارات
اختصار کے ساتھ



سوال

قائل

دل

تہذیب



تعارف

پہلا اشارہ

تیسرا سوال

البقرة ۲	10	آل عمران
2 دع 11 تدا	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۗ	
5 اخ 6	وَأِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا	
2 أس 5 دع	ذُلٌّ لُ تَنْبُرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةً لَا شَيْءَ فِيهَا ۗ	
7 قا 8 ف	قَالُوا الْكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾	٨ ع ٨
2 ن 4 تدا	وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ	
1 ن 6 أس	تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى	
1 أس 4 ض	وَيُرِيكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ	
6 ضد	بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ	
2 تدا 8 تدا	لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ	
5 ضد 7 هد	الْمَاءُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ	
3 س 5 أس	عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ	
3 س 7 عد	فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ	
2 ضد 6 دع	مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا	
3 قا 8 عد	آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا	
1 ف 4 ح	فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾	

پہلا اشارہ

تیسرا سوال

پچھلی آیتوں سے تعلق

بقرہ کا قصہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل گائے کے بارے میں پہلے دو سوال کر چکے ہیں

آیت	القم	10	البقرة ۲
2	دع	11	تدا
5	اخ	6	تدا
2	اس	5	دع
7	قا	8	ف
2	ن	4	تدا
1	ن	6	اس
1	اس	4	ض
6	ض		
2	تدا	8	تدا
5	ض	7	هد
3	س	5	اس
3	س	7	عد
2	ض	6	دع
3	قا	8	عد
1	ف	4	ح

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقْرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۗ
 وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا
 ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۗ
 قَالُوا الْكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾
 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
 تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى
 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
 لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
 الْمَاءُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ
 مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
 آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا
 فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

تیسرا سوال

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ^ج مُسَلَّمَةٌ^ه لَا شِيَةَ فِيهَا^ط

قَالُوا الْكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ^ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ^ع ﴿٧١﴾

اسباق

- بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل براسلوک کرتے رہے۔
- اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا۔
- بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے بلکہ نہ کرنے کے حیلے بہانے کرتے تھے۔

تیسرا سوال

1 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

0 وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا

6 ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا^ط

1 قَالُوا أَلَّنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ^ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ^ع ﴿٧١﴾

قرآن کتنا آسان ہے! آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہے۔
آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے۔



لفظی و فقہی ترجمہ اور شرح

- فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے۔
- نیا فقرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کی دو مرتبہ پریکٹس کریں گے۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ^ط

تیسرا سوال

ہم پر،	مشتبہ ہو گئی ہیں	گائیں	بیشک	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	ہمارے لیے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	اپنے رب سے	دعا کریں ہمارے لیے	انہوں نے کہا:
--------	------------------	-------	------	-----------------------	-----------	------------------------	------------	--------------------	---------------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^ل إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

ہم پر،	مشتبہ ہو گئی ہیں	گائیں	بیشک	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	ہمارے لیے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	اپنے رب سے	دعا کریں ہمارے لیے	انہوں نے کہا:
--------	------------------	-------	------	-----------------------	-----------	------------------------	------------	--------------------	---------------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

تیسرا سوال

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ^ط

انہوں نے کہا:	دعا کریں ہمارے لیے	اپنے رب سے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	ہمارے لیے	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	بیشک	گائیں	مشتبہ ہو گئی ہیں	ہم پر،
---------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------------	------	-------	------------------	--------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

تیسرا سوال

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ^ط

انہوں نے کہا:	دعا کریں ہمارے لیے	اپنے رب سے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	ہمارے لیے	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	بیشک	گائیں	مشتبہ ہو گئی ہیں	ہم پر،
---------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------------	------	-------	------------------	--------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

تیسرا سوال

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ^ط

انہوں نے کہا:	دعا کریں ہمارے لیے	اپنے رب سے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	ہمارے لیے	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	بیشک	گائیں	مشتبہ ہو گئی ہیں	ہم پر،
---------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------------	------	-------	------------------	--------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ^ط



ہم پر،	مشتبہ ہو گئی ہیں	گائیں	بیشک	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	ہمارے لیے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	اپنے رب سے	دعا کریں ہمارے لیے	انہوں نے کہا:
--------	------------------	-------	------	-----------------------	-----------	------------------------	------------	--------------------	---------------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ط

انہوں نے کہا:	دعا کریں ہمارے لیے	اپنے رب سے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	ہمارے لیے	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	بیشک	گائیں	مشتبہ ہو گئی ہیں	ہم پر،
---------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------------	------	-------	------------------	--------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

R-5s-10-Loud



تیسرا سوال

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ^{لَا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ^ط

انہوں نے کہا:	دعا کریں ہمارے لیے	اپنے رب سے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	ہمارے لیے	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	بیشک	گائیں	مشتبہ ہو گئی ہیں	ہم پر،
---------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------------	------	-------	------------------	--------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

انہوں نے کہا:	دعا کریں ہمارے لیے	اپنے رب سے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	ہمارے لیے	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	بیشک	گائیں	مشتبہ ہو گئی ہیں	ہم پر،
---------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------------	------	-------	------------------	--------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^ل إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

انہوں نے کہا:	دعا کریں ہمارے لیے	اپنے رب سے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	ہمارے لیے	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	بیشک	گائیں	مشتبہ ہو گئی ہیں	ہم پر،
---------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------------	------	-------	------------------	--------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ط

تیسرا سوال

انہوں نے کہا: دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ جیسی ہو وہ (گائے)؟

گائیں

مشتبہ ہو گئی ہیں

ہم پر،

بیشک

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

تو ضرور ہدایت پالیں گے

اگر اللہ نے چاہا

اور بیشک ہم

• ادْعُ لَنَا رَبَّكَ: پھر سے بد تمیزی اور پھر وہی بات کہ ”تیرے“ رب سے پوچھ! بار بار

مطالبہ کرنے میں انہیں کوئی شرم نہیں تھی، گویا موسیٰ رسول نہیں بلکہ ان کے خادم ہوں۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ط

تیسرا سوال

انہوں نے کہا: دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ جیسی ہو وہ (گائے)؟

گائیں

بیشک

مشتبہ ہو گئی ہیں

ہم پر،

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

تو ضرور ہدایت پالیں گے

اگر اللہ نے چاہا

اور بیشک ہم

- ادْعُ لَنَا رَبَّكَ: پھر سے بد تمیزی اور پھر وہی بات کہ ”تیرے“ رب سے پوچھ! بار بار مطالبہ کرنے میں انہیں کوئی شرم نہیں تھی، گویا موسیٰ رسول نہیں بلکہ ان کے خادم ہوں۔
- يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ: گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اب تک بتائی ہوئی باتیں ان کے لیے واضح نہیں تھیں۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ط

تیسرا سوال

انہوں نے کہا:	دعا کریں ہمارے لیے	اپنے رب سے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	ہمارے لیے	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	بیشک	گائیں	مشتبہ ہو گئی ہیں	ہم پر،
---------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------------	------	-------	------------------	--------

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

• إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا: اللہ نے انہیں کسی بھی گائے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ بے تکا عذر تھا، اور انہیں اس قسم کے بیکار بہانے تراشنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، گویا اللہ اور اس کے رسول جانتے نہیں ہیں کہ بندوں کو کس طرح حکم دیا جائے۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ^ط

تیسرا سوال

انہوں نے کہا:	دعا کریں ہمارے لیے	اپنے رب سے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	ہمارے لیے	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	بیشک	گائیں	مشتبہ ہو گئی ہیں	ہم پر،
---------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------------	------	-------	------------------	--------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

• وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ: اب جا کر کہیں انہیں اپنی بد اخلاقی کا احساس ہوا اور تیسری مرتبہ میں انہوں نے اِنِّ، اِنْ شَاءَ اللَّهُ اور لَ کا اضافہ کیا۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ^ط

تیسرا سوال

ہم پر،	مشتبہ ہو گئی ہیں	گائیں	بیشک	کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟	ہمارے لیے	کہ وہ کھول کر بیان کرے	اپنے رب سے	دعا کریں ہمارے لیے	انہوں نے کہا:
--------	------------------	-------	------	-----------------------	-----------	------------------------	------------	--------------------	---------------

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اور بیشک ہم	اگر اللہ نے چاہا	تو ضرور ہدایت پالیں گے
-------------	------------------	------------------------

عَلِمَ



الحمد لله



قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

تیسرا سوال

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

تیسرا سوال

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

R-5s-10-Loud



قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط



کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

R-5s-10-Loud



قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

R-5s-10-Loud



قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

R-5s-10-Loud



قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا النَّنْ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

R-5s-10-Loud



قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

تیسرا سوال

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی

جو زمین کو جوتتی ہو

اور نہ پانی دیتی ہو

کھیتی کو،

عیب سے صحیح و سالم ہو،

نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

- لَا ذُلُولٌ...: اللہ کی بردباری دیکھیے کہ اس بار اللہ نے چار باتیں بیان فرمائی: وہ گائے سدھی ہوئی نہ ہو یعنی زمین نہ جوتتی ہو، کھیت کو پانی نہ دیتی ہو، کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب نہ ہو اور اس کے زرد رنگ میں کوئی دھبہ نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کے لیے اس کام کو اور مشکل کر دیا۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا

تیسرا سوال

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی

جو زمین کو جوتتی ہو

اور نہ پانی دیتی ہو

کھیتی کو،

عیب سے صحیح و سالم ہو،

نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

• اگر وہ پہلی مرتبہ ہی میں اللہ کا حکم سن لیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کرنے پر حکم کی تعمیل ہو جاتی لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے یہ کام مشکل ہو گیا۔ اب انہیں ایسی گائے تلاش کرنا پڑا جس میں تین شرطیں اس کے رنگ کی ہوں اور اوپر کی چار صفات بھی ہوں۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

تیسرا سوال

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی

جو زمین کو جوتتی ہو

اور نہ پانی دیتی ہو

کھیتی کو،

عیب سے صحیح و سالم ہو،

نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

• دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنا چاہیے۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا النَّجْتُ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

• النَّجْتُ بِالْحَقِّ: اس بار بھی ان لوگوں نے بد تمیزی کا مظاہرہ کیا گویا اب تک موسیٰ علیہ السلام اب تک جھوٹ بول رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے۔ ان کا پہلا جملہ ”أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا“ یاد کیجیے!

تیسرا سوال

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا النَّجْتُ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

• وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ: وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے۔ اس سے ان کی اس کام میں دلچسپی کا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

تیسرا سوال

• اس سورت کا نام البقرۃ ہے، اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سورت میں اللہ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اس سورت کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ یاد آ جانا چاہیے اور یہ بھی یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا ہے جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا، ان میں کمی زیادتی کرنا یا ان کو نظر انداز کرنا یا پھر اللہ کے احکام کے آنے کے بعد بیکار قسم کے بہانے بنا کر یا ان کی من چاہی تشریح کر کے ان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا وغیرہ۔

• اب ایک حدیث لیتے ہیں۔

حدیث

حضرت ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے پس تم انہیں ضائع مت کرو، اور حدیں قائم کر دی سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور کچھ چیزیں حرام کی تو ان کے قریب مت جاؤ اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے نہ کہ بھول کر، لہذا تم ان کے پیچھے مت پڑو“۔ (سنن بیہقی: 10/13)

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں،

قَالُوا الْكُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں

تیسرا سوال

عَلِمَ



الحمد لله



تیسرا سوال

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

وَأَنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ^ج مُسَلَّمَةٌ^ه لَا شِيَةَ فِيهَا^ط

قَالُوا الْكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ^ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ^ع ﴿٧١﴾

ترجمہ

70. انہوں نے کہا: دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ (گائے)؟ بیشک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، اور بیشک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پالیں گے۔

تیسرا سوال

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

وَأَنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ^ج مُسَلَّمَةٌ^ح لَا شِيَةَ فِيهَا^ط

قَالُوا الْكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ^ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ^ع ﴿٧١﴾

ترجمہ

71. اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبہ اُس میں، وہ بولے: اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اُسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں۔



اسباق، دعا اور پلان

تیسرا سوال

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^ل إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

اسباق

- بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل براسلوک کرتے رہے۔
- اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا۔
- بنی اسرائیل نے نہ چاہتے ہوئے گائے کو ذبح کیا۔

عَلِمَ



تیسرا سوال

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا^ط

قَالُوا الْئِنَّ جِئْتَنَا بِالْحَقِّ^ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ^ع (٧١)

- بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے۔
- اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا۔
- بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے بلکہ نہ کرنے کے حیلے بہانے کرتے تھے۔



اے اللہ!

میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ
صبر سے پیش آؤں۔



اے اللہ!

میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ
صبر سے پیش آؤں۔

مطالعہ وغور و فکر



پلان:

ان شاء اللہ! جب کبھی لوگ میرے ساتھ
بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو میں حضرت
محمد ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
اور نیک لوگوں کو نمونہ بنا کر ان کے اچھے
اخلاق کو یاد رکھتے ہوئے اس کے مطابق
عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔



أفعال

أسماء

ان آیات میں

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

وَأَنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا

ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا^ط

قَالُوا الْكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ^ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ^ع ﴿٧١﴾

أَسْمَاء

کچھ ان میں سے

بَقَرَةٌ ← بَقْرٌ + ، بَقَرَاتٌ +



قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

وَأَنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ^ج مُسَلَّمَةٌ^ه لَا شِيَةَ فِيهَا^ط

قَالُوا الْكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ^ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ^ع ﴿٧١﴾

TPI?

TPI?

اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

تین حروف والے صحت مند افعال

فَتَحَ، نَصَرَ، ضَرَبَ، سَمِعَ

ف ذ ب ح 5 ذَبَحَ يَذْبَحُ إِذْبَحُ ذَابِح مَذْبُوح، ذَبِح ذَبَح

ف ف ع ل 105 فَعَلَ يَفْعَلُ إِفْعَلُ فَاعِل مَفْعُول فِعْل



اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

تین حروف والے کمزور افعال

ہمزہ والے افعال، یکساں حروف والے افعال

وَهَبَ، وَعَدَ، قَالَ، كَانَ ---

أَمَرَ --- ظَنَّ ---

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ^{لا} إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا^ط

TPI?

TPI?

وَأَنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

TPI?

ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا^ط

TPI?

TPI?

قَالُوا أَلَّنْ جِئْتِ بِالْحَقِّ^ط فذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾^ع

TPI?

TPI?

ض د ل ل	11	ذَلَّ	يَذِلُّ	ذَلَّ	ذَلُولٌ	-	ذَلَّ، ذُلٌّ	وہ ذلیل ہوا
س ق ي	17	سَقَى	يَسْقِي	اسْقَى	ساقٍ	مَسْقِيٍّ	سَقَى	اس نے پلایا
ج ي ا	278	جَاءَ	يَجِيءُ	جِيءُ	جَاءَ	-	مَجِيئَةٌ	وہ آیا
ك و د	24	كَادَ	يَكَادُ	-	-	-	كَوَدٌ	وہ قریب ہوا
ك ي د		ض	يَكِيدُ	كَدَّ	كَاءِدٌ	مَكُوْدٌ	كَوَدٌ	اس نے مکر و فریب کیا

عَلَّمَ



وہ مکر کرتے ہیں۔

﴿يَكِيدُوا﴾

باب		مادہ	صرفی تشریح			
ض		ک، ی، د	غائب	مذکر	جمع	فعل مضارع
مصدر	اسم مفعول	اسم فاعل	نہی	امر	مضارع	ماضی
كَيْدًا	مَكِيدًا	كَائِدًا	لَا تَكِيدُ	كِدْ	يَكِيدُ	كَادَ

معنی ماضی: اس نے مکر و فریب کیا۔

كَادَ	يَكَادُ	كَدَّ	لَا تَكَدُّ	كَائِدًا	مَكُوْدًا	كُوْدًا
-------	---------	-------	-------------	----------	-----------	---------

معنی (ماضی): وہ فعل کرنے کے قریب ہوا۔

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا (سورة الطارق: 15، 16)

وہ لوگ تو اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ نوٹ: تاکید کے لئے کیدا مصدر کا اضافہ کیا گیا۔

مزید تفصیل

﴿افعال مقاربه﴾

کسی کام کے شروع ہونے یا قریب ہونے کو بیان کرنا۔
اس کے دو حصے ہوتے ہیں

1. کَادَ 2. خَبَرَ

إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُفُوا وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي

مادہ ض ضرب یضرب ز، ی، د	زَادَ اس نے زیادہ کیا	يَزِيدُ وہ زیادہ کرتا ہے
	زَادُوا انہوں نے زیادہ کیا	يَزِيدُونَ وہ سب زیادہ کرتے ہیں
زِدْتُ آپ نے زیادہ کیا	تَزِيدُ آپ زیادہ کرتے ہیں	لَا تَزِدْ مت زیادہ کرو!
زِدْتُمْ آپ سب نے زیادہ کیا	تَزِيدُونَ آپ سب زیادہ کرتے ہیں	لَا تَزِيدُوا مت زیادہ کرو!
زِدْتُ میں نے زیادہ کیا	أَزِيدُ میں زیادہ کرتا ہوں	زَائِدٌ : زیادہ کرنے والا مَزِيدٌ : جس کو زیادہ کیا گیا زِيَادَةٌ : زیادہ کرنا
زِدْنَا ہم نے زیادہ کیا	نَزِيدُ ہم زیادہ کرتے ہیں	
زَادَتْ اس ایک عورت نے زیادہ کیا	تَزِيدُ وہ عورت زیادہ کرتی ہے	

<p>س</p> <p>سَمِعَ يَسْمَعُ</p>		<p>يَخَافُ اس کو خوف ہوتا ہے</p>	<p>خَافَ کو اس خوف ہوا</p>
		<p>يَخَافُونَ ان سب کو خوف ہوتا ہے</p>	<p>خَافُوا ان کو خوف ہوا</p>
<p>لَا تَخَفْ مت خوف کرا</p>	<p>خَفَ خوف کرا!</p>	<p>تَخَافُ آپ کو خوف ہوتا ہے</p>	<p>خِيفَتْ آپ کو خوف ہوا</p>
<p>لَا تَخَافُوا مت خوف کرو!</p>	<p>خَافُوا خوف کرو!</p>	<p>تَخَافُونَ آپ سب کو خوف ہوتا ہے</p>	<p>خِيفْتُمْ آپ سب کو خوف ہوا</p>
<p>خَائِفٌ ڈرنے والا</p> <p>مَخُوفٌ جس سے ڈرا جائے</p> <p>خَوْفٌ خوف، ڈر</p>		<p>أَخَافُ مجھ کو خوف ہوتا ہے</p>	<p>خِيفْتُ مجھ کو خوف ہوا</p>
		<p>نَخَافُ ہم کو خوف ہوتا ہے</p>	<p>خِيفْنَا ہم کو خوف ہوا</p>
		<p>تَخَافُ وہ عورت کو خوف ہوتا ہے</p>	<p>خَافَتْ اس عورت کو خوف ہوا</p>

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ط

TPI?

TPI?

وَأَنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

TPI?

ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً ۗ لَا شِيَةَ فِيهَا ط

TPI?

TPI?

قَالُوا الْكُنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع ﴿٧١﴾

بَيَّنَّ 41 أُسْ + ب ي ن 41 يُبَيِّنُ بَيِّنٌ مُبَيِّنٌ تَبَيَّنَ

اس نے واضح کیا

تَشَابَهَ 10 تَدَا + ش ب ه 10 يَتَشَابَهُ تَشَابَهُ مُتَشَابَهُ - تَشَابَهُ

وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوا

إِهْتَدَى 61 إِخْر + ه د ي 61 يَهْتَدِي إِهْتَدَى مُهْتَدٍ مُهْتَدَى إِهْتَدَاءَ

وہ ہدایت یافتہ ہوا

أَثَارَ 5 أُسْ + ث و ر 5 يُثِيرُ أَثَرٌ مُثِيرٌ مُثَارٌ إِثَارَةٌ

اس نے زمین جوتی

سَلَّمَ 12 عَد + س ل م 12 يُسَلِّمُ سَلِّمٌ مُسَلِّمٌ مُسَلِّمٌ تَسْلِيمٌ

اس نے صحیح سالم کیا



قَالُوا اَلُنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ ط فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع (٧١)

تم لائے ٹھیک بات،

اب

وہ بولے:

عموماً اَلُّنَّ کے ساتھ مُضَارِع فعل آتا ہے۔ تو ہونا چاہیے تھا:

اَلُّنَّ تَجِيًا بِالْحَقِّ

لیکن کیونکہ وہ حق ہمیشہ سے ہی حق تھا اسلئے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔
اَلُّنَّ جِئْتِ بِالْحَقِّ، جسکا مطلب ہے کہ حق تو وہی تھا لیکن وہ لوگ اسکو اب سمجھے ہیں۔
اور اگر مُضَارِع ہو تو مطلب ہوتا کہ اب حق آیا ہے جو پہلے کہا جا رہا تھا حق نہیں تھا۔

الحمد لله





سات ہوم ورک

◀ دو تلاوت کے (۵ منٹ مصحف سے، ۵ منٹ حافظے سے)

◀ دو پڑھنے کے (کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے)

◀ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا mp3 سننا

◀ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا

◀ اور نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا

آپ منتخب ہیں

1- اپنے لیے دعا کریں:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

2- اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ

اے اللہ! قرآن کی کلاس میں قرآن
سیکھنے میں ہماری مدد فرما!



ویڈیوز سے پڑھائیے!

◀ اگر آپ ویڈیو کو دیکھنے کی پابندی نہ کر سکیں تو موثر طریقہ یہ ہے کہ

اپنے 2، 5، 10 دوستوں کو جمع کیجیے اور مل کر ویڈیو سے سیکھیے۔

◀ جہاں میں **عِلْم** کہوں، ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجیے۔



ورنہ آن لائن ٹیچرز سے پڑھیے

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹیچرز موجود ہیں۔

◀ اپنی ساری فیملی کے ساتھ سیکھیے یا بچوں کو پڑھائیے۔

www.understandquran.com



بہتر یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے!

سکھنے کا بہتر طریقہ سکھانا ہے! ◀

PPT فائلس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھائیے! ◀

www.understandquran.com



ٹیچر ٹریننگ لیجیے!

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹرینرز موجود ہیں، اور

◀ ٹیچر ٹریننگ کا مواد بھی

www.understandquran.com

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.

- اے اللہ ہمیں
- قرآن پڑھنے،
- سمجھنے،
- غور کرنے،
- عمل کرنے،
- پھیلانے،
- یاد کرنے کی
- توفیق دے۔